

12 اپریل 2018

برامپٹن کمیونٹی کو ہنگامی صورت حال میں مدد فراہم کرنے والے 6 رضاکاروں کی خدمات کا صوبے نے اعتراف کیا ہے

برامپٹن، آن - بروز بدھ مورخہ 11 اپریل کو برامپٹن میں منعقد ہونے والی ایک تقریب کے دوران برامپٹن کے 6 رہائشیوں کو 2018 اونٹیریو والنٹیئر سروس ایوارڈز سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈز صوبے کی جانب سے عزت مآب جناب بیرنڈر مالہی، منسٹر آف دی سٹیٹس آف وومن، نے منتخب کردہ رضاکاروں کو پیش کیے۔

رالف ٹینے، لندا ٹوگوے، کرشن دت، لونس گومیز، برائن گوور اور بروس للی کی کئی سالوں پر محیط رضاکارانہ خدمات کا اعتراف کیا گیا ہے، جن میں سے زیادہ تر رضاکاروں کی خدمات کا عرصہ 15 سال تک ہو چکا ہے۔ ان تمام لوگوں نے اپنی رضاکارانہ خدمات برامپٹن کی کمیونٹی ایمرجنسی ریسپانس والنٹیئرز (CERV) کی جانب سے سر انجام دیں۔ یہ پروگرام برامپٹن ایمرجنسی منیجمنٹ آفس نے ترتیب دیا ہوا ہے، جس کا مقصد کمیونٹی میں وقوع پذیر ہونے والی کسی بڑی ہنگامی صورت حال اور دیگر مختلف مواقع پر رضاکارانہ خدمات کی فراہمی ہے۔

برامپٹن کی میئر لندا جیفری نے کہا کہ "برامپٹن کے لیے ان رضاکاروں کی کئی سالوں پر محیط بے مثال رضاکارانہ خدمات اور اس شاندار ایمرجنسی ریسپانس سپورٹ پروگرام کا شکریہ۔" انہوں نے مزید کہا کہ "مجھے ان پر فخر ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک ایسی کمیونٹی کی عکاسی کرتے ہیں جس میں کڑے وقت میں رہائشی ایک دوسرے کی بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں۔"

CERV پروگرام 2003 میں قائم کیا گیا تھا، جس کا مقصد برامپٹن کے اس ہدف کو پورا کرنا تھا کہ ہنگامی حالات پر قابو پانے اور کمیونٹی کو ہنگامی حالات کے لیے تیار رکھنے کے پروگراموں میں برامپٹن کو ایک قائدانہ حیثیت حاصل ہو جائے۔ سٹی کی جانب سے مفت تربیت فراہم کی جاتی ہے اور تربیت کی تکمیل کے بعد CERV پروگرام کے شرکاء شہر میں ورونا ہونے والے ہر طرح کے ہنگامی حالات میں مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ شرکاء لوگوں کو ذاتی اور خاندانی سطح پر ہنگامی حالات کے لیے تیار رہنے کے حوالے سے عوامی آگاہی کی تعلیم کو فروغ دینے میں برامپٹن ایمرجنسی منیجمنٹ ٹیم کی مدد بھی کرتے ہیں۔

CERV پروگرام، جناب کرشن دت کے دوسروں کی مدد کرنے کے جذبے کی ترجمانی کرتا ہے کہ "CERV کا حصہ ہونے کا سب سے مفید پہلو یہ ہے کہ لوگوں کو انفرادی اور عوامی سطح پر حفاظت کے متعلق تعلیمی آگاہی، آپ ایک جانی مانی تنظیم کے ذریعے فراہم کر سکتے ہیں۔"

بعض اوقات کچھ لوگ ہنگامی حالات میں دوسروں کو خطرے یا تکلیف میں دیکھ کر دور بھاگنے کی بجائے فوراً مدد کے لیے خطرے میں کود پڑتے ہیں۔ خطرناک مقامات پر جانے سے ان لوگوں کی اپنی زندگیاں داؤ پر لگ جاتی ہیں اور وہ خود بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہنگامی خدمات پر مامور عملے پر اضافی دباؤ پڑ سکتا ہے۔ CERV ٹریننگ کو اس خطرے میں کمی لانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں رضاکاروں کو ہنگامی حالات پر قابو پانے والی تنظیموں اور طریقوں سے مؤثر طور پر روشناس کرایا جاتا ہے، تاکہ وہ ہنگامی حالات میں وہ مددگار ثابت ہو سکیں۔

15 سال سے رضاکارانہ کام کرنے والے بروس للی کا کہنا تھا کہ "زندگی کا ایک عظیم سچ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی مدد کرنے سے بہت اطمینان حاصل ہوتا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "شہر کی مختلف تقریبات میں اپنا کردار ادا کرنا تسلی بخش اور پر لطف تجربہ ہوتا ہے۔ اگرچہ ایسے چند ایک ہی ہنگامی حالات تھے جن میں CERV کو مدد کے لیے بلايا گیا، مگر شہر کی کئی تقریبات میں مدد فراہم کرنے کے دوران عام عوام کو ایمرجنسی منیجمنٹ آفس اور CERV کے کاموں کے بارے میں بتانے اور انہیں ہنگامی حالات کے لیے تیار رہنے کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کرنے کا بہترین موقع ملا ہے۔"

بروس مزید کہتے ہیں کہ "برامپٹن ہر طرح کے ممکنہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے بہت اچھی طرح تیار ہے اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے یہ ملک کا بہترین تیار شہر ہے۔"

6 - 12 مئی کے دوران پورے کینیڈا میں ہنگامی حالات کے لیے تیار رہنے کا ہفتہ منایا جائے گا اور برامپٹن کا ایمرجنسی مینجمنٹ آفس شہر بھر میں تقریبات اور معلوماتی نشستوں کا اہتمام کر رہا ہے۔ مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca/prepared ملاحظہ کریں۔

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع آرین سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں [ٹویٹر](https://www.brampton.ca) اور [فیس بک](https://www.brampton.ca)۔ مزید جاننے کے لیے <http://www.brampton.ca> ملاحظہ فرمائیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654